

17th Meeting of the Working Mechanism for Consultation & Coordination on India-China Border Affairs

July 24, 2020

بھارت چین سرحدی امور پر مشاورت اور رابطے کیلئے ورکنگ میکانزم کا 17 واں اجلاس

24 جولائی، 2020

بھارت چین سرحدی امور پر مشاورت اور رابطے کیلئے ورکنگ میکانزم (ڈبلیو ایم سی سی) کا 17 واں اجلاس 24 جولائی 2020 کو منعقد ہوا۔ ہندوستانی وفد کی قیادت وزارت خارجہ کے جوائنٹ سکریٹری (مشرقی ایشیا) نے کی جبکہ چینی وفد کی قیادت، چینی وزارت خارجہ کے ماتحت ہاؤنڈری اینڈ سمندری امور شعبہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کی۔

2۔ دونوں فریقین نے ہندوستان اور چین کے سرحدی علاقوں کی صورتحال اور مغربی سیکٹر میں لائن آف ایکچول کنٹرول (ایل اے سی) میں جاری فوج کے پیچھے ہٹنے کے عمل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دونوں فریقین کے لئے باہمی معاہدوں اور پروٹوکول کے مطابق لائن آف ایکچول کنٹرول (ایل اے سی) سے جلد اور مکمل فوج کے پیچھے ہٹنے اور ہندوستان اور چین کے سرحدی علاقوں سے کشیدگی کم کرنے، اور دوطرفہ تعلقات کی مجموعی ترقی کے لئے سرحدی علاقوں میں پائیدار امن و سکون برقرار رکھنا ضروری ہے۔ دونوں فریقین نے اس بات کو اجاگر کیا کہ یہ عمل 5 جولائی 2020 کو، ٹیلیفونک گفتگو کے دوران دونوں خصوصی نمائندوں (ایس آر) کے مابین ہونے والے معاہدے کے مطابق ہے۔ انہوں نے اس تناظر میں اس بات پر اتفاق کیا کہ دونوں فریقین کے لئے سینئر کمانڈروں کے مابین ابھی تک پائی جانے والی اتفاق کا مخلصانہ نفاذ ضروری ہے۔ دونوں فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ سینئر کمانڈروں کے مابین جلد ہی ایک اور میٹینگ منعقد کی جائے گی تاکہ سرحدی علاقوں میں تیزی سے مکمل فوج کے پیچھے ہٹنے اور کشیدگی کم کرنے، اور سرحدی علاقوں میں امن و سکون کی بحالی کو یقینی بنانے کے لئے مزید اقدامات اٹھانے پر بات چیت کی جا سکے۔

3۔ دونوں فریقین نے سفارتی اور فوجی دونوں سطح پر جاری رابطوں کو برقرار رکھنے پر بھی اتفاق کیا، جس میں ڈبلیو ایم سی سی کی میٹینگ شامل ہے۔

نئی دہلی

24 جولائی، 2020

DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.